

Our reference: 1166-NRSL-PSX-11-2024

November 06, 2024

The Managing Director  
Pakistan Stock Exchange Limited,  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road, Karachi.  
Tel: 021 111 001 122

**Subject: Transfer of Full and Final Cash Dividend (D - 02) for the FY 2024**

Dear Sir,

We would like to inform you that, the full and final cash dividend of Nimir Resins Limited (the "Company") of Re. 1.00/- per share (i.e. 10%) for the financial year ending June 30, 2024 as recommended by the Board of Directors of the Company in its Meeting held on September 18, 2024 and approved by the Shareholders in Annual General Meeting held on October 26, 2024, has been transferred electronically into the designated bank accounts of the shareholders who had provided their active / valid bank account(s), by our paying agent (Meezan Bank Limited) on Wednesday, November 06, 2024.

Furthermore, dividend payment of shareholders who have not provided their valid CNIC & IBAN has been withheld as per Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. These dividends will be dealt with in accordance with the applicable laws and regulations.

In this respect, our advertisements to be published in daily Observer Pakistan (English) and daily Asas (Urdu) on Thursday, November 07, 2024 at Karachi, Lahore and Islamabad are attached as Annexure – 1 & 2 respectively.

You may please inform the TRE certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours faithfully,

For **Nimir Resins Limited**



**Muhammad Inam-ur-Rahim**  
Company Secretary



## Nimir Resins Limited

### Credit of Full & Final Cash Dividend

Shareholders of the Nimir Resins Limited (the "Company") are hereby informed that Full and Final Cash Dividend (D – 02) for the financial year ended June 30, 2024 at the rate of 10 % i.e. Re. 1.0/- per share have been credited through electronic mode directly into the designated bank accounts of the shareholders on Wednesday, November 06, 2024, who have submitted their valid CNIC and International Bank Account Number (IBAN).

In order to comply with the requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017 and subsequent notification through SRO 1145(1)2017 of Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has withheld dividend of those shareholders who still have not provided their valid CNIC and IBAN.

Physical shareholders are advised to contact at the Company's Shares Registrar's office i.e. M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore. Tel: 042 35916714 & 19, whereas the CDC shareholders are advised to contact at Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) in case of Investors Account or to respective Broker / Participant where sub-account is maintained, to release of their entitlements.

Lahore  
November 07, 2024

Muhammad Inam ur Rahim  
Company Secretary

| نمر ریزز لمیٹڈ  | NIMIR |
|---|-------|
| <b>کل حتمی نقد منافع منقسمہ کارڈ ڈی-02</b>  |       |
| <p>بذریعہ نوٹس ہذا نمر ریزز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کل حتمی نقد منافع منقسمہ ڈیویڈنڈ (ڈی-02) بشرح %10 فیصد یعنی 1.0 روپے فی شیئر ان حصص داران جو اپنے کارآمد CNIC اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) جمع کرا چکے ہیں کے منسوب بینک اکاؤنٹ میں براہ راست الیکٹرونک طریقہ کے ذریعے 06 نومبر 2024ء بروز بدھ کو جمع کر دیئے گئے ہیں۔</p> <p>کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 کی ضروریات اور اس کے علاوہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے SRO 1145(1)/2017 نوٹیفیکیشن پر تعمیل کرنے کے لئے، کمپنی نے ان حصص داران کے ڈیویڈنڈ روک لئے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد CNIC کی کاپی اور IBAN فراہم نہیں کئے ہیں۔</p> <p>مادی حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے استحقاق کی واگزاری کے لئے، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر یعنی میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 042-35916714 &amp; 19 سے رابطہ کریں، جبکہ سی ڈی سی حصص داران سے التماس ہے کہ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان میں بصورت انویسٹرز اکاؤنٹ یا متعلقہ بروکر اپارٹسمنٹ جہاں سب اکاؤنٹ برقرار رکھے گئے ہیں سے رابطہ کریں۔</p> <p style="text-align: right;">لاہور: 07 نومبر 2024ء</p> <p style="text-align: left;">محمد انعام الرحیم (کمپنی سیکرٹری)</p> |       |